

رہبر معظم سے قرآن کریم کے چھبیسویں مقابلوں کے شرکاء کی ملاقات - 25 / Jul / 2009

رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای نے قرآن کریم کے چھبیسویں بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کرنے والے مہمانوں سے ملاقات میں قرآن مجید پر عمل کو مسلمانوں کے اتحاد، عظمت، عزت اور پیشرفت کا موجب قرار دیا اور ملک کے اندر اتحاد کی حفاظت کی ضرورت پر تاکید کرتے ہوئے فرمایا: حالیہ دنوں میں رونما ہونے والے واقعات کو اختلاف اور خلیج پیدا کرنے کا وسیلہ نہیں بنانا چاہیے اور سب کو برادرانہ طور پر باہمی تعاون کو فروغ اور ملک کی پیشرفت کے لئے تلاش و کوشش کرنی چاہیے۔ اس ملاقات کے آغاز میں قرآن کریم کے بین الاقوامی جج اور استاد ابوالقاسمی، قرائت کے شعبہ میں پہلا مقام حاصل کرنے والے حسینی، حفظ کل قرآن میں پہلا مقام حاصل کرنے والے زویدات اور قرآن کریم کے چھبیسویں بین الاقوامی مقابلوں کے بین الاقوامی جج استاد عبد الفتاح طاروتی نے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رہبر معظم نے اس قسم کی نشستوں کے انعقاد اور قرآنی مقابلوں کو قرآن کریم سے نزدیک ہونے کا سبب قرار دیتے ہوئے فرمایا: قرآن کریم سے استفادہ صرف محفل و چشم و گوش تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارے دل کو بھی قرآن کی تلاوت سے بہرہ مند ہونا چاہیے قرآن عمل کرنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کے لئے ہے اور ہم جتنا قرآن پر عمل کریں گے اتنا ہی اس کے اثرات کا مشاہدہ کریں گے۔ رہبر معظم نے مؤمنین کے لئے خداوند متعال کی نصرت اور مدد کے وعدے کو حتمی قرار دیتے ہوئے فرمایا: اگر ہم الہی وعدے کے محقق ہونے کے شرائط اور قرآن کریم کے دستورات پر عمل کریں تو ہم اپنی زندگی کے میدان میں الہی وعدے کے محقق ہونے کا مشاہدہ کریں گے آج عالم اسلام کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے اور قرآن کریم ہمارے عمل اور ہماری معرفت کا محور اور معیار ہونا چاہیے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای نے قرآن اور اسلام کے دشمنوں کی طرف سے اسلامی اتحاد پر کاری ضرب لگانے اور امت اسلامیہ کے دلوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی تلاش و کوشش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: اسلام دشمن عناصر دھوکہ اور مکر و فریب دیکر یہ کہتے ہیں کہ ان کی قرآن کریم سے کوئی مخالفت نہیں لیکن وہ قرآنی تعلیم و تربیت کے محور کے مخالف ہیں۔ رہبر معظم نے ایرانی قوم کے اتحاد و انسجام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: حبل اللہ کے ساتھ اعتصام و اتحاد کا معنی یہ ہے کہ ہم اصول میں ہمدل و متحد رہیں اگرچہ بعض فروع میں آپس میں اختلاف ہیں اور یہ اتحاد و یکجہتی کے لئے مطلق کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ رہبر معظم نے گفتار میں مراقبت اور اختلاف پیدا کرنے سے پرہیز کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا: دوسرے درجہ کے مسائل کی بنا پر دوسروں کو رد و طرد کرنا مصلحت کے خلاف ہے اور سب کو ملک کی تعمیر و ترقی میں باہمی تعاون اور برادرانہ مدد کرنی چاہیے۔ رہبر معظم نے دو تین دن کے حالیہ واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: اس موضوع کو اختلافات بڑھانے کا موجب نہیں بنانا چاہیے اور کسی پر ناروا تہمت اور الزام بھی عائد نہیں کرنی چاہیے اور کسی کی تمام صلاحیتوں کی کسی ایک غلطی کی بنا پر نفی نہیں کرنی چاہیے۔ رہبر معظم نے سب کو رفتار اور گفتار میں انصاف کو مدنظر رکھنے کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا: خداوند متعال قرآن کریم میں دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے رفتار کرنے کی سفارش فرماتا ہے اسلامی جمہوری نظام میں اصول پر پابندی کے اعلان کے ساتھ مختلف سلیقوں کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ رہبر معظم نے فکری اختلاف کو قدرتی امر قرار دیتے ہوئے فرمایا: فکری اختلاف ہر دور میں موجود رہا ہے اگر فکری اختلاف خواہشات نفسانی کے ہمراہ ہو تو اس سے کام خراب ہوتے ہیں لہذا اس بات کو مدنظر رکھنا چاہیے کہ کہاں اختلافات خواہشات نفسانی کی بنیاد پر ہیں اور کہاں احساس تکلیف کی بنیاد پر ہیں۔ رہبر معظم نے عمل میں دقت اور تقویٰ و پرہیز گاری کی رعایت اور ذمہ داری کو نبھانے میں مراقبت کو خداوند متعال کے لطف و کرم کا موجب قرار دیتے ہوئے فرمایا: احساس تکلیف میں بھی دقت ضروری ہے تاکہ تکلیف کے دائرے سے قدم کہیں باہر نہ نکل جائے۔ اس ملاقات میں اوقاف اور خیریہ امور کے ادارے کے سربراہ اور نمائندہ ولی فقیہ حجت الاسلام والمسلمین مصلحی نے قرآنی سرگرمیوں کے بارے میں مختصر رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا: اوقاف



دفتر مقام معظم رہبری
www.leader.ir

ادارے نے قرآنی علوم کے کالجوں کو قرآنی معارف اور علوم کی یونیورسٹیوں میں تبدیل کیا ہے انہوں نے 850 کلاسوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کلاسوں کا سلسلہ رمضان المبارک میں بھی جاری رہے گا انہوں نے کہا کہ 7 غیر ملکی زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی ہوا ہے جو متعدد بار دیگر ممالک میں شائع ہو چکا ہے۔ حجتہ الاسلام مصلحی نے کہا کہ قرآن کریم کے چھبیسویں بین الاقوامی مقابلوں میں قرآنی موضوعات پر 820 تحقیقی مقالات موصول ہوئے ہیں ان مقابلوں میں 55 ممالک سے 98 افراد نے شرکت کی ان مقابلوں میں نئی نسل کے ممتاز قاری بین الاقوامی ججوں کی صف میں شامل ہوئے ہیں اور عالم اسلام میں پہلی بار مجلسی قرائت تحقیق کی رونمائی ہوئی ہے۔